

5638 - کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی آیت میں صوفی مذہب کی تائید ہوتی ہے

سوال

کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر (69) کی تشریح فرما دیں ؟
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صوفی مذہب کی تائید کی گئی ہے اور یہ آیت ہے ہی صوفیوں کے لئے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جس آیت کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے -

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ، ہے جیسے انبیاء ، صدیق ، اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں النساء (69)

اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

یعنی جس نے وہ عمل کئے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے رک گئے ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عزت و تکریم والی جگہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا ، اور اسے انبیاء اور ان کے بعد مرتبہ میں کم لوگ جو کہ صدیق ہیں پھر ان کے بعد ان سے کم مرتبہ والے لوگ جو کہ شہداء ہیں ان کی مرافقت عطا فرمائے گا پھر عموم مومنوں کی رفاقت ہوگی جو کہ صالح اور نیک لوگ ہیں جن کے ظاہری اور پوشیدہ سب اعمال صالح ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کی ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا :

(کوئی بھی نبی جب بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے) تو وہ بیماری جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی آپ کو بہت سخت بخار نے آیا تھا تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما

رہے تھے (ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ، انبیاء ، صدیق ، اور شہید اور نیک لوگوں کے ساتھ)
تو میں یہ جان لیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے) - تفسیر ابن کثیر -

پھر اس کے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شان نزول کے متعلق بعض چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ :

(اور ان سب سے بڑ کر وہ بشارت ہے جو کہ کتب صحاح اور کتب مسانید وغیرہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں مل سکا ؟ یعنی اعمال صالحہ کے اعتبار سے ان کے مرتبہ و منزل کو حاصل نہیں کرسکا ، تو جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : (وہ آدمی انہیں کے ساتھ ہے جن سے محبت کرتا ہوگا) انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس حدیث سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے -

میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کئے) انتھی -

تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں نہ تو صوفیوں اور ان کے مذہب کی کوئی تائید ہوتی اور نہ ہی جواز پایا جاتا ہے -

اور اگر صوفی سچے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اس کی شریعت شریعت اسلامیہ کو کا التزام کریں _ جیسا کہ آیت میں اس بات کی وضاحت ہے - تاکہ وہ بھی کابیبی پانے والوں میں سے ہو سکیں -

اور کیا وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ اولیاء کو علم غیب ہے حالانکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ، اور کیا وہ قبروں کا طواف کرنا اور ان مردوں سے حاجات طلب کرنا عبادت قرار نہیں دیتے جو کہ حقیقتاً غیر اللہ سے استغاثہ اور کفر و شرک ہے ، اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے امور ہمیں وحی کرتا اور ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو کہ قرآن سنت میں نہیں بلکہ اس سے زائد ہیں ، اور یہ کہ خاص لوگوں کو شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں یہ تو صرف عوام کے لئے ہے -

اور انہوں نے ایسے ذکرواذاکار بنا لئے ہیں جو کہ نہ تو کتاب اللہ میں ملتے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں ، پھر باوجود ان چیزوں کہ یہ چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو کامیاب ہیں اور انبیاء اور صدیقوں کی رفاقت کے طلب گار ہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے بلکہ وہ تو شیطان اور مشرکوں کے ساتھ ہیں ، ہم اللہ

تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کی طلبگار ہیں ۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت نصیب فرمائے اور اپنے پاس اچھی جگہ میں عطا فرمائے ، بیشک وہ مالک اور اس پر قادر ہے ۔

واللہ تعالیٰ اعلم .